

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹرز

(New York City Family Justice Centers)

گھریلو تشدد میں مدد کے لیے ایک-سٹاپ سروس سنٹرز

فیملی جسٹس سنٹرز کیا ہیں؟

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹرز میں گھریلو تشدد کے شکار لوگ اور ان کے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے لوگ اوقات کے دوران کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مدد کا حصول آسان بنانے کے لیے، ہر سنٹر میں بہت سی ایجنسیاں موجود ہیں۔ خدمات مفت ہیں اور تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے مہیا ہیں۔ آپ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

جب آپ سنٹر میں آتے تو محفوظ اور خیال کرنے والی حکومت کی امید رکھیں جو آپ کے لیے ایک خدمت مہیا کرنے والا شخص فراہم کرے گی۔ آپ پہلی دفعہ یہاں آنے پر کلائنٹ سپیشلسٹ سے ملیں گی۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا خدمات چاہیے ہیں۔ کلائنٹ سپیشلسٹ اس کے بعد آپ کی کیس مینیجر کے ساتھ میٹنگ کا وقت مقرر کرے گا، جو آپ سے تفصیل سے بات کرے گا اور سنٹر میں موجود خدمات کے استعمال میں مدد دے گا۔

تمام سنٹر محفوظ عمارتوں میں موجود ہیں تاکہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہر شخص جو ان عمارتوں میں داخل ہوتا ہے اسے داخلے سے پہلے میٹل ڈیٹیکٹر سے لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ براہ مہربانی اپنے ساتھ شناخت کے کاغذ جس پر آپ کی تصویر ہو لائیں۔

"آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی زیادہ مدد موجود تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے اب موقع ہے۔"

ایف جے سی کو استعمال کرنے والی کلائنٹ

فیملی جسٹس سنٹر کس طرح میری مدد کر سکتا ہے؟

کیس مینیجمنٹ آپ کیس مینیجر سے مل سکتے ہیں جو آپ کی ضرورتوں کے لیے لڑ سکتا ہے، اس سے بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے اور خدمات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔

نفسیاتی مشورہ نفسیاتی مشورہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے مہیا ہے۔ اکیلے اور گروپ مشورے دونوں موجود ہیں۔

قانونی معلومات وکیل اور ان کے مددگار بچوں کی نگہبانی، ملاقات، اور امیگریشن جیسے مسائل کے بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں۔

پولیس نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ کے گھریلو تشدد سے بچاؤ کے افسر جو سنٹر میں کام کرتے ہیں جرم کے بارے میں رپورٹ لکھانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ وہ آپ کو اس بات کہ پولیس کس طرح محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے کے بارے میں معلومات بھی دے سکتے ہیں۔

استغاثے کی کارروائی گھریلو تشدد جرم ہے۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر سے استغاثے کے وکیل سنٹر میں موجود ہیں۔ یہ وکیل عدالتوں کے نظام کے بارے میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔

بچوں کا کمرہ آپ کی مدد حاصل کرنے کے دوران آپ کے بچے، 3 سال یا اس سے بڑے، بچوں کے کمرے میں کھیل سکتے ہیں۔

بزرگوں سے بد سلوکی کے بارے میں خدمات کیس مینیجر، وکیل، اور استغاثہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ بزرگوں سے کسی بد سلوکی کا شکار ہیں۔

اپنی مدد آپ کی خدمات عملہ آپ کو عوام کو میسر خدمات، بجٹ بنانے، بچوں کی دیکھ بھال، اور مالی تحفظ میں مدد دے سکتا ہے۔ عملہ آپ کو نوکری کے لیے تربیت اور تعلیمی پروگراموں سے رابطے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔

اوقات، پتہ، راستے کی سمت

اوقات: پیر - جمعہ صبح 9:00 - شام 5:00

ٹیلی فون: اپنے قریبی سنٹر سے رابطے کے لیے 311 کال کریں۔

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، برانکس

ایڈریس: 198 East 161st Street, Bronx, NY 10451

سب وے: 4 یا B یا D یا Yankee Stadium station 161st Street کی طرف

بس: BX1, BX2, BX16 اور BX13

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، بروکلین

ایڈریس: 350 Jay Street, Brooklyn, NY 11201

سب وے: A, C, یا F یا Jay Street R کی طرف یا 2, 3, 4 یا 5

Borough Hall کی طرف

بس: B25, B26, B38, B51, B54, B57, B61, B65, B67 اور B75

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، مینہین

ایڈریس: 80 Centre Street, New York, NY 10013

سب وے: 5 یا 6 یا Brooklyn Bridge-City Hall Station کی طرف، J یا Z

Chambers Street کی طرف، N یا City Hall R کی طرف، 1 یا 2 یا 3

Chambers Street کی طرف، A یا Chambers Street C کی طرف

بس: M5, M9, M22 اور M103

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، کوئینز

ایڈریس: 126-02 82nd Avenue, Kew Gardens, NY 11415

سب وے: E یا F یا Kew Gardens/Union Turnpike کی طرف

بس: Q10, Q37, Q46 اور Q60

سٹیٹن آئیلینڈ گھریلو تشدد کی رسپانس ٹیم

گھریلو تشدد کے شکار ان لوگوں کے لیے جو سٹیٹن آئیلینڈ میں رہتے

ہیں، معلومات اور حوالے کے لیے سٹیٹن آئیلینڈ گھریلو تشدد کی

رسپانس ٹیم کے لیے 311 کال کریں۔ مزید جاننے کے لیے ای-میل

OCDDV_DVRT@cityhall.nyc.gov یا اس ویب سائٹ پر جائیں

www.nyc.gov/domesticviolence



Mayor's Office to
Combat Domestic Violence

محفوظ رہنا

- اگر آپ کو ایمرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑے تو اپنے اور اپنے بچوں کے تمام اہم کاغذات ساتھ لے لیں:
- پاسپورٹ/گرین کارڈ/ورک پرمٹ
- سوشل سیکیورٹی کارڈ/برتھ سرٹیفیکٹ
- بینک سٹیٹمنٹ/کریڈٹ کارڈ/چیک بک
- ٹیکس ریٹرن/تنخواہ کے چیک کا حصہ
- گھر کے کاغذ/لیز
- پروٹیکشن آرڈر
- بچوں کی نگہبانی/ملاقات کے آرڈر
- نکاح نامہ
- بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ/سکول کا ریکارڈ
- جاننے والوں کے نمبر اور ایڈرس اور فون کارڈ
- تشدد کرنے والے کی تصویر
- تشدد کا ثبوت اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس میں ای-میل، ٹیکسٹ، یا ڈائری بھی شامل ہے۔
- کچھ ڈالز، فالٹو چابیاں، کپڑے، دوائیاں، اور اہم کاغذات ایک بیگ میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ یا کسی اعتبار والے شخص کے پاس رکھ دیں۔

- اگر آپ سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ اقدامات آپ کو محفوظ رہنے میں مدد دے سکتے ہیں:
- اگر آپ خطرے میں ہیں یا اپنے شریک حیات کے ہاتھ زخمی ہیں تو 911 کال کریں۔
- اپنے بچوں کو پولیس کو فون کرنا سیکھائیں اور پر تشدد موقعے پر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔
- اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کسی ایمرجنسی کے دوران پناہ کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کریں۔
- رات کو اور جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر جائیں تو تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیں۔
- اپنے بچوں کے سکول/ڈے کیئر کو اطلاع دیں کہ کسے بچوں کو لے جانے کی اجازت ہے۔
- اپنے فون نمبر کو غیر درج شدہ کروانے کے لیے درخواست دیں۔
- اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کا پتہ کسی کو نہ دیں، تشدد کرنے والے کو بالکل نہ بتائیں کہ آپ کہاں رہ رہی ہیں۔
- باہر اکیلے نہ جائیں۔
- اگر ممکن ہو تو، کام پر کسی شخص کو اپنی فون کال چیک کرنے کو کہیں، اپنے دفتر کا فون نمبر اور ای-میل تبدیل کروانے کی درخواست کریں، دفتر آئے اور گھر واپس جانے کے لیے اپنا راستہ بدل لیں اور اپنے اوقات میں بھی تبدیلی کر لیں۔

”اس پروگرام نے مجھے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں مدد دی ہے۔ اس نے مجھے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دی، ٹیلی فون استعمال کیا، اور کمپیوٹر پر نوکری ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ مجھے جو کچھ بھی چاہیے تھا، اس پروگرام نے خوشی سے مجھے دیا۔“ ایف جے سی کو استعمال کرنے والی کلانٹ

اگر آپ یا کوئی ایسا جس کو آپ جانتے ہوں گھریلو تشدد کا شکار ہو تو، مدد موجود ہے۔ نیو یارک شہر کی 24-گھنٹے مہیا گھریلو تشدد کی ہاٹ لائن کے لیے 311 کال کریں۔

ایمرجنسی میں 911 کال کریں

مدد تمام زبانوں میں مہیا ہے

www.nyc.gov

شراکت دار

The Arab American Family Support Center, Inc./Tamkeen
Barrier Free Living
Bronx County District Attorney's Office
CAMBA
Center Against Domestic Violence
Day One
FEGS
The Financial Clinic
Garden of Hope
Good Shepherd Services Safe Homes Project
Her Justice
Jewish Association Serving the Aging
Jewish Board of Family and Children's Services
Kings County District Attorney's Office

Korean American Family Service Center
Legal Services NYC - Bronx
Manhattan Legal Services NYC
Metropolitan Council on Jewish Poverty
Mount Sinai Sexual Assault & Violence Intervention Program
New York Asian Women's Center
New York City Anti-Violence Project
New York City Department of Information Technology and Telecommunications
New York City Human Resources Administration
New York City Police Department
New York County District Attorney's Office
New York Legal Assistance Group
Northern Manhattan Improvement Corporation

Queens County District Attorney's Office
Queens Legal Services
Safe Horizon
Sanctuary for Families
Sauti Yetu Center for African Women
Shorefront Y
South Brooklyn Legal Services
STEPS to End Family Violence
St. Luke's Roosevelt Crime Victims Treatment Center
Urban Justice Center
Urban Resource Institute
Violence Intervention Program, Inc.
Weinberg Center for Elder Abuse Prevention
W!SE (Working in Support of Education)